

29. AL-ANKABUT (LAWEAK-LAWEAK)

Suet ke-29: 69 ayat

Ngen sebut gen Allah De Maho Pengasiak,
Maho Penyayang.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Alif lam mim (hanya Tuhan de namen).

الْم ﴿١﴾

2. Janokah manusio kiro bahwa tobo'o bakea kmunyau dio ba ngen madeak "keme sudoh berimen" ngen udi coa mujai?.

أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾

3. Ngen benien, keme sudo mujai tun-tun sebelum udi, mako Tuhan (Allah) tun-tun da benea gen peset namen tun-tun de beduso.

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ^ط فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ ﴿٣﴾

4. Atau tun-tun de kemerjo kejahatan do'o kiro bahwa udi bakea laput kundi azab keme? Kemiak buuk jano de udi tetep o!.

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا ^ع سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٤﴾

5. Barang siapi membot temau gen Allah, mako sebeneane waktau (de jenanjai ne) Allah paset teko gen si de maha temjuk maha namen.

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٥﴾

6. Dan barang siapi paneu mako benien ne paneu o utuk awok ne dewek, benien Allah maho kayo (coa perlu jano-jano) kundi kute isai bumai.

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ^ع إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

7. Ngen tun-tun de berimen gen kemerjo debaikne, paset gen keme mapus saleak-saleak gen udi paset melei balasan de lebiak baik kundi jano de udi kemerjo.

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٧﴾

8. Ngen keme wajib untuk manusio supayo menea de baik ne gen keduai tun tuwaine. Gen kalau keduwai ne makso untuk menduwai kan uku ngen jano-jano de ko coa gen tenwan lemau tntang o, mako cibeak ba ko tmiuk nadeak keduwai

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ^ط وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ^ع إِلَىٰ

مَرْجِعِكُمْ فَأْتِبْخَيْرَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

<p>ne, do'o ba ngen ku kakea beleknu, gen uku smapei gen ko jano de sudo ko kemrjo.</p>	
<p>9. Ngen tun-tun de berimen gen kemerjo de baik ne, udi paset ngen masuk moi milem (golongan) tun de malim.</p>	<p>وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴿٩﴾</p>
<p>10. Ngen neak nak antaro manusio pao de madeak” keme berimen ngen Allah, tapi seandaine si sakit (karno si berimen) ngen Allah, si manggap ujian manusio sebagai sikso Allah. Ngen teko bantuan/tulung kundei Tuhannu udi pasti madeak “sebeneane keme sesamo “ coa ne Allah lebiak namen jano de ade neak lem dado kute manusio.</p>	<p>وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولَنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ؕ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾</p>
<p>11. Ngen Allah paset namen tun-tun de berimen, ngen si pasti namen tun-tun de munafik.</p>	<p>وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ﴿١١﴾</p>
<p>12. ngen tun-tun de kafia madeak ngen tun-tun de berimen “totoa ba dalen keme, ngen keme mbin doso-doso tobo'o dewek sebeneane tobo' khianat.</p>	<p>وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلنَحْمِلْ خَطِيئَتَكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ ﴿١٢﴾</p>
<p>13. Ngen tobo'o mbinn doso-doso tobo'o dewek ngen doso-doso de luyen sesamo doso tobo 'o ngen padeak bilai kiyamat tobo'o paset tmanyen tentang denike selalu tobo'o madeh semdiyo.</p>	<p>وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَاهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ ؕ وَلَيَسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتُرُونَ ﴿١٣﴾</p>
<p>14. Ngen sebeneane, keme sudo mutus nu ngen kaum ne, mako si tinggea sesamo tobo'o selamo seribau tahun kuang lemo puluak tahun. Sudo'o tobo'o keno banker, sdangkan tobo'o tun-tun de jahat.</p>	<p>وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ؕ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٤﴾</p>
<p>15. Mako keme selamat Nuh ngen tun-tun de neak kapal o ngen kene jijai ne (peristiwa) o sebagai pelajaran untuk kute</p>	<p>فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَبَ السَّفِينَةَ وَجَعَلْنَاهَا ءَايَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٥﴾</p>

- manusio.
16. Ngen (nget ba)Ibrahim, ketiko si madeak ngen rombongan ne” sembeakba Allah gen taqwa ba ngen Allah, de sudo ne o lebiak baik untukmu, tngen ko namen.”.
17. Sebeneane de ko sembeak seluyen Allah dioba berhal-berhala, ngen ko menea o coa mampu lemei jerkai ngen ko. Mako minoi jerkai kundai Allah ngen sembeak ba si ngen bersyukur ba ngen Allah. Ngen Allah ba ko belek.
18. Ngen ko (tun kafia) ngike mako sebenea, umat sebelum nu kula sudo ngike (rosun ne) ngen kewajiban Rosul o dioba smapei (agama Allah) de jejlas ne
19. Ngen janokah tobo’o coa kemliak keakro Allah muloi menea (makhluk), sudo’o si mulangne (belek) dioba de uyo o mueak bagi Allah.
20. nadeak ba”paneu bak nak bumai, mako kenliak ba keak ro (Allah) muloi menea (makhluk) sudo’o Allah jmijai kejadian de akhir. Sebeneane Allah maha kuaso kute jano-jano
21. Si (Allah) mazab siapi de kenlok ne ngen melei rahmat ngen siapi de kenlokne ngen hanya sib a te belek.
22. Ngen ko dedbat coa (pulo) neak lenget ngen dedbat coa ba nagi nu melindungi ngen menulung sluyen Allah
23. Ngen tun-tun de kafia ngen ayat-ayat Allah ngen tatamau ngen si tobo’o putus asa kundei rahmat-ku ngen tobo;o dapet azab de pelgiak.
- وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَانْتَفُوا^ط
ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾
- إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ
إِفْكًَا^ع إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا
يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ
وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ^ط إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٧﴾
- وَإِن تَكذَّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا
عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿١٨﴾
- أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ^ع
إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٩﴾
- قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ
الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾
- يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ^ط وَإِلَيْهِ
تُقَلَّبُونَ ﴿٢١﴾
- وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ^ط
وَمَا لَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٢٢﴾
- وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ
يَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأُولَئِكَ هُم عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿٢٣﴾

24. mako coa adeba jawaban kaum Ibrahim, seluyen madeak “nunuak ba atau memben ba si “sudo’o Allah semlamat kundei opoi. Sebeneane ne ngen de uyo o benea-benea dapet tando-tando kebesaran Allah utuk tun-tun de berimen. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٤﴾
25. Kecek Ibrahim “sebeneane udi sembeak berhala seluyen kunei Allah o, sebab o lebiak dou kunci kewalan dunio yo be neak bilai kiamat udi muker do ngen di leyen ngen mengutuk di luyen penen udi nerako ngen cou ade dapet temulung udi”. وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ نَّصِيرِينَ ﴿٢٥﴾
26. Sudo o beriman ba Luth ngen si kecek Ibrahim “uku lok aleu hijrah ngen tuhan, Si gi paling maha perkasa, Si kunci paling maha bijaksana”. ﴿ فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٦﴾
27. Keme magiat si anak do’o ngen Yakub, anak keturunan ne keme jemijeikan rombongan Nebai ngen wahyu neak dennyo si sudo keme magiak imbalan neak akhirat si jijai tun sholeh. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَءَاتَيْنَاهُ أُجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾
28. Ngen keme ade mengutus luth gi madeak ngen kutai, “ Udi yo sudo meneak selek gi ati perna kenerjo ngen tun luyen nak dunyo yo”. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾
29. “Bene udi yo tujau ngen sesame semanei, tujau menjegal, tujau menea saleak neak penan-penan temeu udi?’Jenawab rombongan ne coa luyen, cubo nelei sikso ne Allah o kalau ko memeing benea. إِنِّي كُنْتُ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٩﴾
30. Kecek luth “Woi tuhan tulung ba uku madep tun-tun gi mengesat”. قَالَ رَبِّ أَنْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿٣٠﴾
31. Sesudo o utusan-utusan keme teko ngen Ibrahim gi ngemin kabar riang to bo o madeak keme teko untuk mabis tun neak وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا

- sadie yo (masyarakat) negrei yo karena masyarakat bidau menea duso”.
32. Jenawab Ibrahim “Luth kana de neak di: nadeak ne “Keme namen api-api gi nadeak neak di si sekeluargo be keme namen kecuali perpuan ne: si lok teningea besamo-samo ngen tun-tun gi ade neak di”.
33. Sesudo o tobo utusan keme o teko ngen Luth, si meraso coa tujau ngen tobo o si meraso coa bedayo jano-jano terhadap ngen tobo o, rombongan tamu o madeak, cebak seban cibeak saro, ko sekeluargo nyo kema maman kecuali perpuan nu si tetep tingea bersamo-samo ngen tun gi ade neak lem negerei o”.
34. Keme lo temuun sikso kunei lenget untuk masyarakat negerei o karno perbuatan ne gik menyelek niyen.
35. Neak antaro kes-kes sikso o masiak ade gi keme munyau utuk jemijei tano gi nyato gik tun-tun lok bepeker.
36. Ngen masyarakat Mad-yan keme utus Syu’eb pasuak ne dewek, si madeak “woi masyarakat ku sembah Allah maeybah belie sudo yo jibeak menea donyo usak.
37. Tapi si keno pike lajau keno gepo loin yen, singgo tobo o jejei buteu gik timun neak umeak o si.
38. Awei o kulo kaum Ad ngen Tsamud keme mabis awei ipi udi kemleak neak antara tieat-tieat ne kaeno tobo nujung gi lok kemten baes plep tobo o (gik kidek) sehinggo tobo o dapat menghalang kunei dalam Allah, padahal tobo o tun-tun gik
- مُهَلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿١١﴾
- قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا خُبُّ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أُمَّرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿١٢﴾
- وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أُمَّرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿١٣﴾
- إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٤﴾
- وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِّنْهَا آيَةً بَيْنَهُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٥﴾
- وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٦﴾
- فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثْمِينَ ﴿١٧﴾
- وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَّيْنَا لَكُمْ مِّن مَّسْكِنِهِمْ وَرَبِّ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿١٨﴾

bepeker.

39. Kulo Harun, Fir'aun ngen Haman keme mabis. Musa sudo sapie ngen tobo o min temiang tapi tobo seklo ne bae neak lem negerei, tobo coa nam milok kunei sikso Tuhan.

وَقُرُونًا وَفِرْعَوْنَ وَهَمَانَ ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ
مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَأَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا
سَابِقِينَ ﴿٣٩﴾

40. Ngen kute ne o sudo keme mak ca'o karno duso tobo o do o ba antaro tobo o sudo keme, kejadian ade gik seminar gutua nobra abrik ade gi nem tenimun neak lem denyo, ade gi nem neak laut iso Allah menea lalim terhadap tobo o, tapi tobo o menea lalim terhadap dirie ne dewek.

فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ ۖ فَمِنْهُمْ مَن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ
حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَن أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَن
خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَن أَغْرَقْنَا ۚ وَمَا
كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ
يَظْلِمُونَ ﴿٤٠﴾

41. Seumpamo tun-tun gi mok seluyen Allah gen melindung do oba, awei laweak gi menai uamak, sedangkan umeak gi paling salei, adeba umeak laweak kelau tobo o ngertai.

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ
الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا ۖ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ
لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

42. Tuhan namen jano bae gik senmak seluyen Allah, si paling perkasa, paling bijaksana.

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ۗ مِنْ شَيْءٍ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤٢﴾

43. Seumpamanya keme menea untuk manusio, coa ade gik nam ngertei kecuali gik tun berilmu.

وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا
الْعَالِمُونَ ﴿٤٣﴾

44. Tuhan jenijei denyo ngen lenget ngen hok hal yo jije tando bagi tun mukmin.

خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٤﴾